

Surah 52: Al-toor - سورة الطور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[52:0] Bismi **ALLAH**, Alrahman, Alrahim.*

وَالطُّورِ ١

[52:1] Da Al-toori .

وَكُتُبٍ مَّسْطُورٍ ٢

[52:2] Da wani littafi rubutacce.

فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ ٣

[52:3] Wanda aka wallafa a cikin takardu .

وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ٤

[52:4] Da gidan da aka ta yawan zuwa.

وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ٥

[52:5] Da rufin nan da aka daukaka.

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ٦

[52:6] Da tekun nan da aka cinna wa wuta.

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ٧

[52:7] Azabar Ubangijinka, mai aukuwa ce, ba makawa.

مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ٨

[52:8] Ba ta da mai tunkudeta.

يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ﴿٩﴾

[52:9] Akwai ranar da sama za ta yi cida na qarfin bala'i.

وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴿١٠﴾

[52:10] Kuma za shafe tsaunika.

فَوَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾

[52:11] To, bone ya tabbata a ran nan ga masu qaryatawa.

الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ﴿١٢﴾

[52:12] Wadanda suke cikin wauta basu kulawa.

يَوْمَ يَدْعُوكَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا ﴿١٣﴾

[52:13] A ranar za kora su zuwa wutar Jahannamah, ta tilas.

هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٤﴾

[52:14] Wannan ita ce wutar da kuka kasance kuna qaryatawa.

أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿١٥﴾

[52:15] To, shin wannan sihiri ne, ko kuwa ku ne ba ku gani?

أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْرُونَ مَا كُنْتُمْ

تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

[52:16] "Ku shige ta ku sha wahalar qonarta. To, ko ku jure, ko kuma kada ku jure, duk daya ne a kanku. Wannan ita ce sakamakon da ya dace ga abin da kuka aikata.

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾

[52:17] Masu taqawa kuwa sun cancanci gidajen Aljanna da wata ni'ima.

فَكَهِنِينَ بِمَاءٍ أَنَّهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَّهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٨﴾

[52:18] Suna masu more abin da Ubangijinsu Ya ajiye masu; kuma Ubangijinsu Ya kare masu azabar Jahim.

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

[52:19] Ku ci, ku sha, da ni'ima, domin abin da kuka kasance kuna aikatawa.

مُتَّكِنِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾

[52:20] Suna kishingidewa a kan karagu masu qasaita, sa'annan za mu hada su aure da kyakkyawan mata.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ
مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾

[52:21] Kuma wadanda suka yi imani, kuma zuriyarsu suka bi su ga imani, za mu hada da zuriyarsu su ciki. Ba mu taba gazawa da mu ba su ladan kowane aikinsu ba. Ana biyan kowane mutum ladan abin da ya aikata.

وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢٢﴾

[52:22] Kuma za yalwata masu 'ya'yan itatuwa da nama irin wanda suke marmari.

يَنْزِعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْتِيمٌ ﴿٢٣﴾

[52:23] Za su more da shaye-shayen da ba su gurbantawa, kuma wanda babu laifi a sha.

﴿٢٤﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ﴿٢٤﴾

[52:24] Wadanda za su yi masu hidima, za kasance kamar dai su lu'ulu'u ne wanda aka kiyaye.

﴿٢٥﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٥﴾

[52:25] Za su cudanya da juna, suna tuna baya tsakaninsu.

﴿٢٦﴾ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٢٦﴾

[52:26] Za su ce, "Lalle da mukan yi kirki da kyautata a cikin iyalanmu.

﴿٢٧﴾ فَمَنْ أَلَّهِ عَلَيْهِنَا وَوَقْنَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾

[52:27] "To, **ALLAH** Yã yi mana kyautar falala, kuma Ya tsare mana azabar iskar zafi."

﴿٢٨﴾ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿٢٨﴾

[52:28] "Da mukan roqe Shi; Shi ne Mafi kyautatawa, Mafi rahamah."

﴿٢٩﴾ فَذَكَرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿٢٩﴾

Manzo

[52:29] To, ka tunatar da mutane. Da ni'imar Ubangjinka, kai ba boka ba ne, kuma ba mahaukaci ba.

﴿٣٠﴾ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُّ بِهِ ۗ رَبِّبِ الْمُنُونِ ﴿٣٠﴾

[52:30] Meyuwa su ce, "Mawaqi ne; bari mu jira kawai sai ya mutu."

قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴿٣١﴾

[52:31] Ka ce, "Ku yi jira; domin ni ma ina a cikin masu jira tare da ku."

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلِمُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٣٢﴾

[52:32] Shin, mafalkinsu ne ke umarin su da halayensu, ko kuwa mugayen mutane ne tun asali?

أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُهُ، بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾

[52:33] Shin, sun ce ne. "Shi ne ya qaga fadarsa?" Lalle, su dai ba su da imani ne kawai.

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٣٤﴾

"Mohammedan" Sun Qalubalanci Allah
Sai Suka Fito Da Hadith

[52:34] To, su fito da wani Hadith misalinsa idan suna da gaskiya.

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٣٥﴾

[52:35] Shin, an halitta su ne ba daga kome ba? Ko kuwa su ne masu yin halitta?

أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾

[52:36] Shin, su ne suka halitta sammai da qasa? Ba su da imanin yaqini.

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصِيطِرُونَ ﴿٣٧﴾

[52:37] Shin, su ne ke mallakan taskokin Ubangijinka? Ko kuwa su ne ke da iko?

﴿٣٨﴾ أَمْ لَهُمْ سُلْمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ

[52:38] Shin, suna da wani tsani ne wanda ke ba su laman hawa, suna sauraro? To, sai masu saurara masu su zo da hujja bayyananne.

﴿٣٩﴾ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ

[52:39] Shin, Yana da 'ya'ya mata ne, sa'annan ku, kuna da 'ya'ya maza?

﴿٤٠﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَّغْرَمٍ مُثْقَلُونَ

[52:40] Shin, kana tambayar su wata ijara ne, saboda haka suka zama masu jin nauyin biyan tarar?

﴿٤١﴾ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ

[52:41] Shin, sun san ilmin gaibi ne, kuma suka rubuta shi?

﴿٤٢﴾ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ

[52:42] Shin, suna yunqurin wani kaidi ne? To, kaidin kafirai yana komawa kansu ne.

﴿٤٣﴾ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

[52:43] Shin, suna da wani abin bautawa ne wanda ba **ALLAH** ba? Tsarki ya tabbata ga **ALLAH** nesa daga abin da suke yi na shirki!

وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿٤٤﴾

[52:44] Sa'ad da suka ga manyan duwatsu daga sama suna fadowa, za su ce, wani girgije ne, mai hauhawar juna.

فَذَرَّهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٤٥﴾

[52:45] To, ka rabu da su, sai sun hadu da yinin nan da za a sumar da su.

يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٦﴾

[52:46] A ranar ne, kaidinsu ba zai wadatar da su da kome ba, kuma ba za taimaka masu su ba.

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾

[52:47] Wadanda suka yi zalunci, suna da azaba a nan duniya, amma mafi yawansu ba su sani ba.

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٤٨﴾

[52:48] Sai ka yi haquri da hukuncin Ubangijinka-kana idanunMu-kuma ka tsarkake Ubangijinka sa'ad da kake tashiwa.

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَرَ النُّجُومِ ﴿٤٩﴾

[52:49] Kuma a cikin dare, ka tsarkake Shi, da kuma lokacin da taurari ke yin bushi-bushi.